


جاناڻي ڪم ٿيڻ تي

Å snakke om familien



✎ Espen Stranger-Johannessen
✉ Billie Cejka Risnes
📧 Yasir Tayyab
|| 3
😊 | ur / norsk | nb



LIDA Stories

lidastories.net

جاناڻي ڪم ٿيڻ تي / Å snakke


om familien

✎ Espen Stranger-Johannessen

✉ Billie Cejka Risnes


📧 Yasir Tayyab (ur), Espen Stranger-

Johannessen (nb)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



”کچھ آپ کا کوئی خندان ہے؟“


...

«Har du familie?»

«Det er en god ide. Jeg håper også at barna mine vil begynne på universitetet etter hvert.»

...


«میرے بچے اچھے اسکول سے پڑھیں گے۔»
«نہ کسی دن یونیورسٹی چاہیں گے۔»




«Ja, mannen min og jeg har to døtre og en sønn.»

...

«میرے شوہر اور میں نے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔»






”میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں طلاق یافتہ ہوں۔“

...

«Jeg har også to døtre, men jeg er skilt.»



”وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ

اسے یونیورسٹی چننا چاہیے۔“


...

«Han vil få seg en jobb, men jeg sier til ham at han burde begynne på universitetet i stedet.»

«Hvor gamle er døtrene dine?»

...

«ذہنی عمر کی نسبتاً کیا ہے؟»





«Så finti De vokser så fort. Hva vil han gjøre etter det?»

...

«ذہنی عمر کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اسے وہ نہیں

سہیجہ ہو سکتا ہے۔ اس کی جلدی اس کی جلدی کی نسبتاً کیا ہے؟»






“مید چر نڈل کی ہے۔ وہ نرسری اسکول جتی ہے۔ مریم دس
نڈل کی ہے، اس لیے وہ اسکول جتی ہے۔”

...

«Mina er fire år. Hun går i barnehagen.
Miriam er ti, så hun går på skolen.»



“میرے تھم بچے سکول میں ہیں۔ میرا بیڈا اگلے نڈل
گریجویٹ ہو جائے گا۔”

...

«Alle barna mine går på skolen. Sønnen
min blir ferdig neste år.»